

# 10<sup>th</sup> Class English Notes

## Paragraph Translations

### Unit No: 8

### Peace

امن

#### Words / Meanings

wind تیز ہوا

roaring دھاڑتی ہوئی

smashing تباہ کن

monster بلا/عفریت

destruction تباہی

racking کام کو تباہ کر دینے والی

valleys وادیاں

vales گاڑیاں

spinning گھماتے ہوئے

broken ٹوٹا ہوا

flying بڑھاتے ہوئے

Core اصل/فطرت

center درمیان

eternal دائمی

stillness خاموشی

gentle مدھم

whispers سرگوشیاں

far away بہت دور

un important غیر اہم

#### Paragraph # 1

The wind is now  
a roaring, smashing  
monster of destruction,  
raking all man's work  
from the valleys,  
from the vales,  
and sends them spinning,  
broken flying -

Why is wind compared to  
a monster of destruction?

ترجمہ :

اب ہوا

ایک طوفانی، تباہ کن

زبردست تباہی لانے والی عفریت ہے

انسان کے تمام کاموں کو تباہ و برباد کر دینے والی

واد یوں سے

گھاٹیوں سے

اور انہیں گھماتے ہوئے بھیج دیتی ہے

ریزہ ریزہ کر کے اچھال دیتی ہیں۔

## Paragraph # 2

But all of that is  
not its core,  
its center is in truth  
eternal stillness  
bright blue skies  
and all you hear  
are gentle whispers  
far away  
and unimportant.

Explain "its center is in truth".

ترجمہ:

لیکن یہ سب

اس کی (فطرت) نہیں۔

اس کا مرکز سچائی ہے۔

دائمی ٹھہراؤ

روشن نیلا آسماں

اور وہ سب جو تم سنتے ہو

میٹھی سرگوشیاں ہیں

بہت دور

اور غیر اہم۔